

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 3528/2021

Date of Institution ... 08.03.2021
Date of Decision ... 28.06.2022

Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar
Hussain District Mardan.

... (Appellant)

VERSUS

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Director General Mines
and Mineral Peshawar and three others.

... (Respondents)

Hafeez Ul Asad Shangla,
Advocate,

... For appellant.

Kabir Ullah Khattak,
Additional Advocate General

... For respondents.

Salah-Ud-Din
Rozina Rehman

... Member (J)
... Member (J)

JUDGMENT

ROZINA REHMAN, MEMBER (J): The appellant has invoked the
jurisdiction of this Tribunal through above titled appeal with the prayer
as copied below:

"On acceptance of this Service Appeal, the impugned order
No.11670/3-520/DGMM/Admn dated 27.07.2020 and order No.SO
(E) MDD/2-45/2020 dated 08.02.2021/1551-54 communicated to
appellant on 24.02.2021, passed in appeal, may kindly be set aside
and consequently the respondents may kindly be directed to
reinstate the appellant in service from the date of his removal from
service and also to extend all the back benefits and to pay all the
arrears to the appellant".



2. Brief facts of the case are that appellant was initially appointed as Mines Guard in (BS-03) vide office order dated 08.02.2018. The respondent No.1 alongwith respondent No.2 offered surprise visit to different areas of District Swabi including Jagnat on 10.07.2020 where the appellant alongwith other Mineral Guards namely Shahid Hussain, Hussain Ahmad and Kashif were deputed the duty of checking of unauthorized mining. They were also directed to stop the unauthorized mining in the other areas consisting of Adeena, Ismaila, Shewa, Narangi, Adnan Talawo and other surrounding areas of district Swabi. On the relevant day, when surprise visit was offered, appellant alongwith other Mineral Guards were on duty in their deputed area and was on visit in Jaganat area where they found Asif and Shakeel busy in unauthorized mining, excavating, loading and transportation of sand through machines. Despite warning, they did not stop the illegal act, therefore, Mineral Guard Kashif drafted murasila against the culprit in presence of the appellant and other Guards. The said murasila was signed by the appellant and others being witnesses of the occurrence who were very much present on the relevant day and time when surprise visit was offered. That appellant other Guards also found involved Nizar and Waseem in unauthorized mining excavating, therefore, Hussain Ahmad Guard drafted the murasila in presence of appellant and other Guards and the same was signed by the appellant and others being witnesses. Thereafter, they all rushed to Police Station Yar Hussain for the purpose of lodging of FIR on the strength of murasila against those who were involved in unauthorized mining where FIR No.549 and 550 were registered and appellant alongwith other Guards recorded statement in



PS to that effect. The matter was also reported to the high officer. The whole proceedings took a considerable time in the Police Station and when they returned to the duty area back at 2:00pm, they came to know about the visit of respondents. Show cause notices were issued to the appellant and other guards which were replied, where-after, they were directed to appear for personal hearing and vide order dated 27.07.2020, major penalty of removal from service was imposed upon appellant. He filed departmental appeal which was rejected, hence, the present service appeal.

3. We have heard Hafeez Ul Asad Shangla, Advocate learned counsel for the appellant and Kabir Ullah Khattak, learned Additional Advocate General for respondents and have gone through the record and the proceedings of the case in minute particulars.

4. Learned counsel for the appellant inter-alia argued that the appellant alongwith other Guards were busy in proceedings against those who were involved in illegal mining, loading and transportation of mineral (Sand) but this fact was totally ignored by the respondents and the murasila, FIR and other documents were not taken into consideration. It was further argued that the appellant performed his duty with full zeal and with a sense of responsibility throughout his service but this aspect was ignored by respondents; that material available on record and relevant documents showing the presence of appellant on duty on the relevant day and time was fully ignored, therefore, the impugned order is liable to be set aside. He contended that the area of duty of the appellant is a vast area and Police Station Yar Hussain is also far away from the relevant place of occurrence and it consumed hours to complete the proceedings in Police Station to return back to the place of duty. Besides, Juma prayer was also offered on




the way back to duty but the respondents did not take into consideration the relevant facts. He submitted that impugned orders dated 27.07.2020 and 08.02.2021 are against law and facts and that the imposition of major penalty is harsh which is liable to be declared as null & void, therefore, appellant is entitled to be reinstated in service from the date of his removal with all back benefits.

5. Conversely, learned AAG submitted that the present appellant Hilal Ahmad was directed vide office order dated 01.07.2020 to perform duty round the clock at Jaganat, Adnan Talawo, Sher Dara, Mir Ali, Adeena, Ismaila and Kalu Khan of District Swabi with already deputed Mineral Guards to curb unauthorized mining but he was found absent from his duty during surprise visit paid by the respondents No.1 & 2 on 10.07.2020. He further submitted that show cause notice was issued to the appellant on account of failure to control illegal mining, absence from site and non-performing of duty which was replied and that after hearing the appellant, major punishment was imposed upon him after fulfillment of all codal formalities.

6. From the record, it is evident that appellant Hilal Ahmad was appointed as Mineral Guard (BS-03) vide order dated 08.02.2018 in the Directorate General of Mines & Minerals Department. He was directed to check illegal mining and transportation in Adnan Talawo, Parmoli, Sher Dara, Mir Ali, Adeena, Ismaila, Kalu Khan and surrounding areas of District Swabi and to take action against the offenders. It was on 10.07.2020 when respondents No.1 & 2 paid surprise visit to different areas of District Swabi and found the appellant absent from duty. It is astonishing that the drafting of murasila on 10.07.2020 and its registration in shape of FIR in



Police Station Yar Hussain is not denied by the respondents in their comments. As per record, vide FIR No.549, one Kashif Mineral Guard reported the matter in respect of illegal mining by Shakeel and Asif on 10.07.2020 at about 1100 hours. The murasila was properly signed by Kashif Mineral Guard and it was also signed by Shahid Hussain, Hussain Ahmad and Hilal Ahmad Mineral Guards signed the same being witnesses of the occurrence. It is also not denied that the appellant alongwith his companions also informed Assistant Director in respect of drafting of murasila and illegal act of the culprits on spot. Similarly, on 10.07.2020, FIR No.550 was registered on the strength of murasila drafted and signed by Hussain Ahmad Mineral Guard and signed by the present appellant and two others against Nizar and Waseem. From the entire proceedings it becomes crystal clear that the appellant alongwith his colleagues was very much present on the spot in connection with their duty. Besides, the departmental proceedings initiated against the appellant are also replete with anomalies as just a show cause notice was issued to the appellant which was not properly drafted according to law. Proper reply was submitted to the show cause notice but even then, the record was not taken into consideration. Neither charge sheet alongwith statement of allegations was issued nor inquiry was conducted according to law.




7. The respondents have very candidly violated the set norms and rules and conducted the proceedings in an authoritarian manner. We have observed that the appellant was kept deprived of affording appropriate opportunity of defense. In the whole process, no inquiry was conducted. Appellant was not afforded an opportunity as is required under Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011. It

is, however, a well-settled legal proposition duly supported by numerous judgments of Apex Court that for imposition of major penalty, regular inquiry is a must.


8. We are unison on acceptance of this appeal in the light of our observation in the preceding paras which immediately call for the reinstatement of the appellant into service from the date of his removal from service with all back benefits. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED.

28.06.2022



(Salah-ud-Din)
Member (J)




(Rozina Rehman)
Member (J)

31.05.2022

Learned counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Addl. AG for the respondents present.

Written reply/comments on behalf of respondents submitted which is placed on file. Copy of the same is handed over to learned counsel for the appellant. To come up for rejoinder if any, and arguments on 28.06.2022 before D.B.


(Mian Muhammad)
Member (E)


ORDER
28.06.2022

Appellant present through counsel.

Kabir Ullah Khattak, learned Additional Advocate General for respondents present. Arguments heard and record perused.

Vide our judgment of today of this Tribunal placed on file, instant service appeal is accepted. Consequently, the impugned order of removal from service is set aside and the appellant is reinstated in service from the date of his removal from service with all back benefits. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED.
28.06.2022


(Salah Ud Din)
Member (J)


(Rozina Rehman)
Member (J)

Stipulated period passed reply not submitted.

15.09.2021

Learned Addl, A.G be reminded about the omission and for submission of reply/comments within extended time of 10 days.


Chairman

13.12.2021

Learned counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Addl: AG alongwith Mr. Iqbal, AD (Admin) for respondents present.

Written reply/comment on behalf of respondent not submitted. Representative of the respondents seeks time for submission of written reply/comments. Granted. To come up for written reply/comments on 17.02.2022 before S.B.


(MIAN MUHAMMAD)
MEMBER (E)

17.02.2022

Due to retirement of the Worthy Chairman, the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 11.03.2022 for the same as before.

*Due to retirement of the Worthy Chairman,
the Tribunal is defunct, therefore,
case is adjourned to 31/05/2022
for the same as before.*


Reader



15.07.2021

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard.

Both the departmental appeal as well as service appeal ~~are~~ seem to be time-barred but in view of particular legal position to be discussed herein-after, the bar of limitation for the time-being is immaterial. In wake of COVID, 19, the Government of Khyber Pakhtunkhwa for the first time declared Public Health Emergency in March, 2020 for three months which was extended from time to time for further term and presently it has been extended by the Government vide Notification No. SOG/HD/1-102/Covid-19/2020/3062, dated 30.06.2021 for the period from 01.07.2021 to 30.09.2021. The case of the appellant falls within the period of emergency. In view of Section 30 of the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Act, 2020, the limitation period provided under any law shall remain frozen. This appeal having been filed after promulgation of the said Act, is not affected by bar of limitation. Excluding the case of appellant from rigors of limitation, his appeal is fit for full hearing. Keeping the question of limitation relating to filing of instant appeal intact for determination during full hearing, this appeal, subject to all just and legal objections including objection of limitation is admitted for regular hearing. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments in office within 10 days after receipt of notices, positively. If the written reply/comments are not submitted within the stipulated time, or extension of time is not sought through written application with sufficient cause, the office shall submit the file with a report of non-compliance. File to come up for arguments on 13.12.2021 before the D.B.

Appellant Deposited
Security & Process Fee





Chairman

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 3528 /2021

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	15/03/2021	<p>The appeal of Mr. Hilal Ahmad resubmitted today by Mr. Hafeez-ul-Asad Shangla Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-		<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>24/05/21</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
24.05.2021		<p>Due to demise of the Worthy Chairman the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 07.09.2021 for the same as before.</p> <p style="text-align: right;"> Reader</p>

The appeal of Mr. Hilal Ahmad son of Awal Sher received today i.e. on 08/03/2021 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

Copy of show cause notice in respect of appellant is not attached with the appeal which may be placed on it.

No. 500 /S.T,


Dt. 08/03 /2021


REGISTRAR,
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

Hafeez-ul-Asad Shangla Adv. Pesh.

deficiency removed.

re-submitted please.



15/3/21

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No _____/2021

Hilal Ahmad.....Vs..Government of KP and others

I N D E X

S NO	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEX	PAGE
1.	Grounds of Appeal	-	1-9
2.	Affidavit	-	10
3.	Addresses of the parties	-	11
4.	Copies of the CNIC, service card and appeal order <i>appointment</i>	'A'	12-15
5.	Copy of the duty order	'B'	16, 17
6.	Copy of the Murasila, FIR and report	'C'	18-24
7.	Copies of the show cause and replies	'D & E'	25-28
8.	Copy of the personal hearing	'F'	29
9.	Copy of the impugned order dated 27-7-2029	'G'	30
10.	Copy of the appeal and order	'H'	31-39
11.	Copy of the FIR	'I'	40-49
12.	Wakalat Nama (In original)	-	50

Appellant

Through:

H. Asad Shangla
(HAFEEZ-UL-ASAD SHANGLA)
Advocate,
High Court, Peshawar
Cell # 0314-5951897

Dated: -04-03-2021

1

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Service Appeal No 3528 / 2021

Diary No. 3424

Dated 08/3/2021

Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar
Hussain District Mardan.....(Appellant)

VERSUS

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Director
General Mines and Mineral at Peshawar
2. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary
Mines and Mineral at Civil Secretariat, Peshawar
3. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Mardan
4. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Swabi.....(Respondents)

Filed to-day

Registrar
08/03/2021

Re-submitted to -day
and filed.

Registrar
15/3/2021

Appeal under Section 4 of Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act, 1974 against the impugned order No 11670/3-520/DGMM/Admn dated 27th July, 2020; whereby a major penalty of "Removal from Service" was imposed upon the Appellant and against the impugned order No SO (E) MDD/2-45/2020 dated 08-02-2021/1551-54 communicated to Appellant on 24-02-2021, whereby departmental appeal filed by the Appellant against the impugned "Removal from Service" order was rejected

PRAYER IN APPEAL:-

On acceptance of this Service Appeal, the impugned order No 11670/3-520/DGMM/Admn dated 27-07-2020 and order No SO (E) MDD/2-45/2020 DATED 08-02-2021/1551-54 communicated to Appellant on 24-02-2021, passed in appeal, may kindly be set aside and consequently the Respondents may kindly be directed to reinstate the Appellant in service from the date of his removal from service and also to extend all the back benefits and to pay all the arrears to the Appellant.

Respectfully Sheweth:-

Brief facts leading to this service appeal are as under:-

- 1) That the Appellant was initially appointed as a Mines Guard (BPS-1) through office order dated 08-02-2018 and was posted in office of Mineral Department Mardan. (Copies of the CNIC, service card and appointment order are attached as Annex 'A').
- 2) That throughout Appellant's service, Appellant worked efficiently with having no complaint whatsoever by any person so far.
- 3) That on 10-07-2020, the Respondent No 1 alongwith Respondent No 2 offered surprised visit to the different areas of District Swabi including Jaganat (non-leased area) of Yar Hussain, where the Appellant alongwith other Mineral Guards namely Hussain Ahmad, Shahid Hussain and

Kashif were deputed the duty of checking of unauthorized mining. It is worth mentioning to explain that Appellant alongwith above mentioned Mineral Guards were not only deputed to stop the unauthorized mining and its excavation and transportation in Jaganat area but also other areas consisting of Adeena, Ismaila, Shewa, Narangi, Adnan Talawo and other surrounding areas in District Swabi consisting of kilometers. (Copy of the duty order is attached as Annex 'B').

- 4) That on the relevant day, when surprised visit was offered by the Respondents No 1 and 2, Appellant alongwith other above mentioned Mineral Guards were on duty in their deputed area and was on visit in Jaganat area where about 11:00 AM in Asif area they found the persons namely Asif and Shakeel were busy in un-authorizing mining and were busy in excavating, loading and transportation of minor mineral (sand) through machines in their respective area.
- 5) That thereafter, after warning them to stop the illegal mining, mineral guard namely Kashif drafted murasila under the relevant law against those involved in illegal mining, their excavation and transportation in presence of Appellant and other mineral guards namely Shahid Hussain, Hussain Ahmad. Moreover, the said murasila was signed by the Appellant and other mentioned mineral guards, being a witnesses of the occurrence, which shows presence of the

(4)

Appellant on duty on the relevant day and time, when surprised visit was offered by the Respondent No 1 and 2.

- 6) That on the same day in area of Jaganat (Nizar Drang), where Appellant alongwith above Mineral Guards was on duty, also found involved persons namely Nizar and Waseem busy in un-authorized mining and in excavation, loading and transportation of minor Mineral (Sand) through machine in their respective area.
- 7) That thereafter, after warning them to stop the illegal mining mineral guard namely Hussain Ahmad drafted murasila under the relevant law against those involved in illegal mining, their excavation and transportation in presence of Appellant and other mineral guards namely Shahid Hussain and Kashif. Moreover, the said murasila was signed by the Appellant and other mentioned mineral guards, being a witnesses of the occurrence, which shows presence of the Appellant on duty on the relevant day and time, when surprised visit was offered by the Respondent No 1 and 2.
- 8) That thereafter, the Appellant and other mineral guards rushed to P.S Yar Hussain for the purpose of lodging FIR on the basis of murasila against those involved in unauthorized mining where FIR No 549 and 550 were lodged and Appellant and other mineral guard recorded their statement in P.S to this effect and also the matter was

5

report to high officials. (Copy of the Murasila, FIR and report is attached as Annex 'C').

- 9) That the whole proceeding took a considerable time (From about 11:00 AM to about 01:00 PM) in police station and on the way back to duty place as it was Friday, hence Appellant and other mineral guards also offered Jumma prayer in Yar Hussain and when they returns to the duty area back at 02:00 PM they came to know about the visit of Respondents No 1 and 2 from the locals.
- 10) That due to non-availability of Appellant and other mineral guards namely Hussain Ahmad, Shahid Hussain, Kashif at the time of visit of Respondents No 1 and 2, show cause notice was issued which was properly replied. (Copies of the show cause and replies are attached as Annex 'D & E').
- 11) That thereafter, the Appellant and other mineral guards were directed to appear for personal hearing on 27th July, 2020 which was followed accordingly and Appellant and other mineral guards appeared before Respondents for personal hearing. (Copy of the personal hearing is attached as Annex 'F').
- 12) That thereafter on 27-07-2020 through impugned order No 11670/3-520/DGMM/Admn a major penalty of "Removal from Service" was imposed upon Appellant. (Copy of the impugned order dated 27-07-2020 is attached as Annex 'G').

6

- 13) That thereafter the impugned removal order, was questioned/ challenged through departmental appeal/ representation, which was rejected after reply through impugned order SO (E)/MDD/2-45/2020 dated 08th February, 2021/1551-54 communicated to Appellant on 24th February, 2021. (Copy of the appeal reply and impugned order is attached as Annex 'H').
- 14) That the Appellant having no other efficacious remedy, approaches this Honourable Tribunal on the following grounds inter-alia:-

GROUNDS:-

- A) That at the time of visit of Respondents No 1 and 2, Appellant alongwith other Mineral Guards namely Kasif, Hussain Ahmad and Shahid Hussain were busy in proceeding against those involved in illegal mining and evacuation, loading and transportation of minor mineral (Sand) but this facts were totally ignored by the Respondents though all the relevant documents i.e. Murasila, FIR and official report were provided to them, hence the impugned order is liable to be set aside.
- B) That throughout his service, the Appellant performed his duty with full zeal, regularly, efficiently and with a sense of responsibility and always obeyed the directions of high officials, but this aspect was totally ignored by the Respondents

- C) That material available on record and relevant documents, showing the presence of Appellant on their duty on relevant day and time, was fully ignored; hence the impugned order needs to be set aside and the Appellant is entitled to be reinstated in service.
- D) That area of duty of Appellant is consist of kilometers and police station Yar Hussain is also far away from the relevant place of occurrence and it consumed hours to complete the proceeding in police station and to return back to place of duty. Moreover, on the way back to duty a Jumma prayer was also offered, hence this facts needs to be considered, but was not entertained by Respondents, therefore, the Appellant deserve to be reinstated in service.
- E) That the impugned order dated 27-7-2020 and 08-2-2021 is against the law, facts and principle of natural justice, hence needs to be set aside.
- F) That the imposition of major penalty of removal from service is harsh and all the allegations leveled against the Appellant is false and baseless and without footing; hence needs to be set aside.
- G) That murasila was duly signed by the Appellant and other mineral guards namely Kashif, Hussain Ahmad and Shahid Hussain being a witnesses of the occurrence on spot, which show presence of Appellant on duty on relevant day and

8

time, but this aspect was totally ignored by the Respondents and a harsh order of removal from service was passed, which is liable to be declared as null and void and hence Appellant is entitled to be reinstated in service from the date of his removal with all back benefits and arrears.

- H) That during on duty, the Appellant suffered threats throughout his service but Appellant not make it hurdle for duty and performed his duty with diligently. (Copy of the FIR is attached as Annex 'I').
- I) That Respondents totally ignored the facts that duty places of the Appellant is located in different places of Swabi and spared over on kilometers and far away from concerned police stations but Respondents passed a harsh order of removal from service, which is liable to be set aside.
- J) That impugned order passed by Respondents is based on surmises and conjectures, hence liable to be set aside.
- K) That any other ground, not raised specifically may graciously be allowed to be raised at the time of arguments.

PRAYER:-

It is, therefore, most respectfully prayed that on acceptance of this Appeal, the impugned order No 11670/3-520/DGMM/Admn dated 27-07-2020 and order No SO (E) MDD/2-45/2020 DATED 08-02-2021/1551-54 communicated to Appellant on 24-02-2021, passed in appeal, may kindly be set aside and

(9)


consequently the Respondents may kindly be directed to reinstate the Appellant in service from the date of his removal from service and also to extend all the back benefits and to pay all the arrears to the Appellant.

Any other relief, which this Honourable Tribunal deems proper in the circumstances of the appeal may also be granted in favour of Appellant.



Appellant

Through:




(HAFEEZ-UL-ASAD SHANGLA)
Advocate,
High Court Peshawar

Dated: -03-03-2021

NOTE:-

No such service appeal for the same Appellant has earlier been filed by me before this Honourable Tribunal prior to instant one.



Advocate

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR


Hilal Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

Government of KP and others.....(Respondents)


AFFIDAVIT

I, Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar Hussain District Mardan, do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the contents of accompanying application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Honourable Court.




DEPONENT _____
CNIC # 16201-6218857-1
Cell # 0345-5175000/

Identified by:-



(HAFEEZ-UL-ASAD SHANGLA)
Advocate
High Court, Peshawar



BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Hilal Ahmad

VERSUS

Government of KP and others

MEMO OF ADDRESSES

APPELLANT



Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar
Hussain District Mardan

RESPONDENTS

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Director
General Mines and Mineral at Peshawar
2. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary
Mines and Mineral at Civil Secretariat, Peshawar
3. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Mardan
4. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Swabi

Through:

Appellant


H. 

(HAFEEZ-UL-ASAD SHANGLA)

Advocate,

High Court, Peshawar

Dated: -04-03-2021



(12)

حکومت پاکستان
 قومی شناختی کارڈ
 16201-6218857-1
 محمد امجد
 12/03/1992

Annex-A



S727F4 16201-6218857-1
 محمد امجد
 06/08/2022 06/08/2022




[Signature]
ATTESTED

13

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
MINERAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
DIRECTORATE GENERAL MINES & MINERALS

Hilal Ahmad
Mineral Guard



Card No: 657

Office: HEADQUARTERS OFFICE MINERAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Assistant Director Admin.
Directorate General
Mines and Minerals
K.P.K Peshawar.
Issuing Authority

SERVICE IDENTITY CARD

Father/Husband Name: Awaj Sher


CNIC No: 1620-6218857-1 Date of Birth: 12-03-1992

Issue Date: 15-05-2018 Valid upto: 31-12-2022

PNV No: 0345-9905840 Blood Group: A-Ive

Present Address: Mohallah mamuji Masjid Yar Hussain Swabi
Tehsil Lahore.

Note: For information/verification please contact DGMM Admin (991-8211146)



[Signature]

ATTESTED

(14)



DIRECTORATE GENERAL OF MINES AND MINERALS

KHYBER PAKHTUNKHWA

ATTACHED DEPARTMENT COMPLEX KHYBER ROAD PESHAWAR

No. 3632 DGMM/Admin/1/17/Vol-IV

Dated 08 /02/2018.

To

✓ Mr. Hilal Ahmad s/o Badar Sher,
Moh: Mamijee Masjid Yar Hussain Distt: Swabi.

Subject: **OFFER FOR THE POST OF MINERAL GUARD (BPS-03)**

You are hereby offered a temporary post of Mineral Guard (BPS-03) in this Directorate General Mines and Minerals, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar on the following terms & conditions:-

- i). That your appointment in this Directorate is purely temporary and can be terminated at any time without assigning any reason or notice. In case you wish to resign at any time Fourteen (14) days pay may be forfeited.
- ii). You will be allowed minimum of BPS-03 (9610-390-21310) plus other usual allowances as admissible under the rules.
- iii). This offer is subject to the condition that you belong to the respective zone.
- iv). You will be governed by such rules and orders relating to leave, travelling allowance, medical attendance, pay etc issued by the Government from time to time and your services will be transferable throughout the Khyber Pakhtunkhwa.
- v). You will have to join duty at your own expenses.
- vi). You will produce Health and Age Certificate from the concerned Civil Surgeon/Medical Superintendent.

If the above terms & conditions are acceptable to you then join the duties in the Head Quarter Office, Peshawar within 15 days of the issue of this letter otherwise this offer will be treated as withdrawn.

Assistant Director (Administration)
For Director General

ATTESTED



(13)

**DIRECTORATE GENERAL MINES & MINERALS
ATTACHED DEPARTMENT NEAR JUDICIAL COMPLEX,
KHYBER ROAD, PESHAWAR CANTT**

Ph: 92-91-9210317

No. 13/654/DGMM/Admin

Dated. 03/2018

OFFICE ORDER

On the recommendation of Departmental Selection Committee. Mr. Hilal Ahmad s/o Awal Sher, Moh: Mamajee Masjid Yar Hussain District Swabi is hereby appointed as Mineral Guard (BPS-03) (Rs.9610-390-21310) in this Directorate General, Mines and Minerals Khyber Pakhtunkhwa with effect from 12-02-2018 (F.N) on the terms and conditions already communicated to him vide this Directorate Letter No. 3632/DGMM/Admin:1/17/Vol:IV Dated 08-02-2018.

He is posted in the office of the Assistant Director Mineral, Dev: Swabi and perform the duty in the office of Assistant Director Mineral, Dev: Mardan on temporary basis till further order.

Sd/-
Director General Mines and Minerals
Khyber Pakhtunkhwa.

Endst No. 5665-70/13/654/DGMM/Admin

Dated. 01/03/2018

A Copy is forwarded to

- 1- PA to Director General, Mines and Minerals, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2- The District Account officer, Swabi.
- 3- The Assistant Director (Account), H/Q Office Peshawar.
- 4- The Assistant Director Mineral, Dev: Swabi/Mardan.
- 5- Official concerned. (Mr. Hilal Ahmad Mineral Guard)
- 6- File No. 1/17/DGMM/Admin.


Assistant Director (Admin)
For Director General


ATTESTED



(16)

Annex-B

REGISTERED

OFFICE OF THE

ASSISTANT DIRECTOR MINERAL DEVELOPMENT MARDAN

Address: Center Colony, Near Jamia Masjid Muqam Chowk District Mardan. Tel: No.0937-9230506

No. _____/MDW/MR/Establishment File

Dated: ___/___/2020

OFFICE ORDER

In supersession of previous order of this office regarding field duty in order to stop un-authorized mining and transportation of minerals from different areas of District Swabi, the following officials are hereby deputed/reshuffled as per detail given below with immediate effect till further order.

S No.	Name of Mineral Guard	Contact No.	Place of duty
1	Mr. Shahid Hussain (MG) Mr. Hilal Ahmad, Mr. Kashif (MG)	0305-9595590 0345-5175000 0314-9001301	Check illegal mining and transportation of Major/Minor Minerals near Adina, Ismailia, Shewa, Parmoli, Naranje, Jaganat/Adnan Talao and surrounding areas District Swabi round 'o' clock and take action against the offenders as per Section-42 & 56 of Khyber Pakhtunkhwa Mines & Mineral Act 2017. No one will leave station without permission of incharge/undersigned and submit weekly report to this office.
2.	Mr. Mamnon Khan (RI) Mr. Imran Ali (MG) Mr. Salman (MG)	0302-5921017 0331-8850451 0345-9395955	Check illegal mining and transportation of Major/Minor Minerals and also check transportation of minerals (Minor/Major) without verified transit challan and un-authorized crush plants near Topi Road, Pontia/Hemlit, Ghundao Tarako, Maneri, Kala Dara, Punj Pir, Janghidher Block B, Zaida, Gadoon, Bamkhel and surrounding areas District Swabi round 'o' clock and take action against the offenders as per Section-42 & 56 of Khyber Pakhtunkhwa Mines & Mineral Act 2017 as well as Perform duty at Mineral check post near village Shagai Maneri District Swabi No one will leave station without permission of Station incharge/undersigned and submit weekly report to this office.
3.	Mr. Mamnon Khan (RI) Mr. Janab Ali (MG) Mr. Fayaz Khan (MG)	0302-5921017 0346-9830069	Check illegal mining and transportation of Minor Minerals near Chontra Jabbar/Masam Dheri, Jalbia Dobian, and also check transportation of minerals (Minor/Major) without verified transit challan Ambar/Rest House, Dab Korona/Jalsai, Tor Dher, Shiekh Dheri, illegal mining of Gold near Kund Park, River Indus in the Jurisdiction of District Swabi and surrounding areas District Swabi round 'o' clock and take action against the offenders as per Section-42 & 56 of Khyber Pakhtunkhwa Mines & Mineral Act 2017. No one will leave station without permission of incharge/undersigned and submit weekly report to this office.

1. The field staff will submit complaint/Marasalla to concerned Police Station. Action against the offender will be taken as per Khyber Pakhtunkhwa Mineral Sector Governance Act-2017 and submit their progress reports in written to the undersigned on weekly basis along with Marasallas and FIRs for onward submission to the H/Q office. They are also directed to pursue the FIR cases in court of Law.
2. The special team deputed at S No. 01 & 02 & 03 is strictly directed to keep vigilant watch over the susceptible areas to un-authorized mining/transportation in the un-auction areas of Jaganat/Adnan Talao, Kala Dara Punjpir, Pontia/hamlet, Jangidher Block B, Chontra Jabbar/Masam Dheri, Jalbai Dobian respectively and report to the undersigned on daily basis. In case if any un-authorized mining/transportation observed action shall be taken against the official as per E&D Rules.

ATTESTED

Assistant Director (Tech)
Mineral Development Mardan
Division Mardan


Endst: No. 753-57/MDW/MR/Establishment
Copy to:-

(17)

Dated 1/17/2020

1. The Director General Mines and Mineral Khyber Pakhtunkhwa Peshawar for information, please.
2. The Deputy Commissioner Swabi for information with the request to direct the local administration to assist the field staff in controlling and stoppage of un-authorized mining and transportation of minerals, please.
3. The District Police Officer Swabi for information with the request to direct all SHO's of their concerned Police Station to assist the field staff in controlling and stoppage of un-authorized mining and transportation of minerals, please.
4. The Assistant Director Monitoring Swabi for information and with the request to ask your field staff to coordinate with the staff of this office specially ask them to keep vigilant watch over the un-auctioned areas shown as bold words above and other cancelled/suspended and expired areas.
5. Official concerned for compliance.


Assistant Director (Tech)
Mineral Development Mardan
Division Mardan


ATTESTED

Aux - C

ذاتی نام اسٹیٹ ڈائریکٹریٹ فکس ہیریٹ (لوہا)


ذاتی نام

گزارش ہے کہ آپ کے ذریعے کئی دفعہ
 کم عین مل گا، ڈیڑھ لکھ روپے کی ایک ایکسپنڈیچر
 رقم کیلئے میں موجود ہے۔ اس آفس میں
 میں قانونی مانتا دیا گیا ہے۔ ایکسپنڈیچر
 پورا کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کو ادائیگی
 کے لئے کوڑا کر کے اس کے متعلقہ آفس میں
 ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے متعلقہ آفس
 کیسے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 ہے۔

صفحہ: 10-07-20

الکھانہ

اسٹیٹ منٹری گارڈ
 سٹارٹ منٹری گارڈ
 سٹارٹ منٹری گارڈ
 سٹارٹ منٹری گارڈ



ATTESTED

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
DEPARTMENT OF MINES & MINERALS DEVELOPMENT

وقت آمد 10:07-020

وقت رفت 10:07-020

عینہ نسیم شکرہ (اصناف درنگ)

رقم (17) 56 دفتر کی مسدودگی کو ختم کرنے کے لیے درخواست 2017

مراسلہ بغرض قاضی مقدمہ

188
Yousaf (Swabi)


یا مددگار

مختصر اس کے بعد ہی کہیں کوئی شکایت نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عدالت میں درخواست
لکھ کر پیش کی ہے۔ شکرہ نسیم شکرہ کے خلاف عدالت میں موجود ہے۔ یہ تشکیل دیا گیا ہے۔
مختصر یا حسین نے عدالت میں درخواست اور آصف درنگ وارث خان کے ساتھ
اور ایک ایک صورت میں عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے پیش کیا۔
ابھی تک عدالت میں درخواست ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عدالت میں درخواست
کوئی بار نہیں دیا ہے۔ عدالت میں درخواست ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عدالت میں درخواست
مختصر یا حسین نے عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
بالا افراد عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
اور عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے
عدالت میں درخواست دہانہ اپنے وارث میں سے قانونی مشورہ دہر سید نے

FIR سے عدالت میں درخواست
6313-9380-848

Kashif
1117409-8117409

اصناف درنگ
مختصر یا حسین
عدالت میں درخواست
اصناف درنگ
مختصر یا حسین
عدالت میں درخواست
اصناف درنگ
مختصر یا حسین
عدالت میں درخواست



حضرت ابنا- اسٹریٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں

مقامی دفتر

گزارش کی تاریخ 12-11-1967ء

موضوع: جمع و منظر کی کارروائی کی تقریریں

میں نے اس بارے میں ایک تقریر کی ہے جس میں موجودہ

اداریہ امور کے بارے میں عرض کیا ہے اور

میں نے اس کے بارے میں بھی عرض کیا ہے

جو کہ اس کے بارے میں عرض کیا ہے

میں نے اس کے بارے میں عرض کیا ہے

میں نے اس کے بارے میں عرض کیا ہے

میں نے اس کے بارے میں عرض کیا ہے

10.07.67

Handwritten signature

Handwritten signature


محمد علی احمد مندرجہ بالا

محمد علی احمد مندرجہ بالا

محمد علی احمد مندرجہ بالا

محمد علی احمد مندرجہ بالا

الحاضر



ATTESTED

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
DEPARTMENT OF MINES & MINERALS DEVELOPMENT

وقت 10-07-020 11:30 am

وقت رپورٹ 10-07-020

مذکورہ واقعہ (نظائر گارا) کے متعلق رپورٹ پیش کر کے درخواست کی ہے کہ مذکورہ واقعہ کے متعلق تحقیقات کی جائے اور ملوث افراد کو سزا دی جائے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔

ATTESTED
S.P.O P/S
Mussain (Swabi)

یار ضعیف

مذکورہ واقعہ کے متعلق رپورٹ پیش کر کے درخواست کی ہے کہ مذکورہ واقعہ کے متعلق تحقیقات کی جائے اور ملوث افراد کو سزا دی جائے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔

مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔
مقامی پولیس نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جیل سے رہا کر دیا ہے۔



P/S Swabi
10-7-20

نظار

ابتدائی اطلاع رپورٹ

ابن اطلاع ثبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زبردفعہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ فوجداری

تاریخ وقوعہ: ۱۵/۰۹/۲۰۱۷
 وقت وقوعہ: ۱۰:۰۵
 550

ATTEST
 S.H.O P/S
 Var Hussain

<p>۱۲/۰۹/۲۰۱۷</p> <p>حسین احمد منیر گارڈ</p>	<p>۱۵/۰۹/۲۰۱۷</p> <p>حسین احمد منیر گارڈ</p>
<p>۲۰۱۷</p> <p>۵۶ (۱)</p>	<p>۲۰۱۷</p> <p>۵۶ (۱)</p>
<p>غیر لید شدہ رقبہ چکنائو انظار درنگ</p>	<p>غیر لید شدہ رقبہ چکنائو انظار درنگ</p>
<p>پہم سکونت بلزم ① نظار ولد عبدالغفار ساکنان بار حسین</p>	<p>پہم سکونت بلزم ② نظار ولد عبدالغفار ساکنان بار حسین</p>
<p>رواں جو پیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرتے ہیں صرف برائے نفع عام</p>	<p>رواں جو پیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرتے ہیں صرف برائے نفع عام</p>
<p>تاریخ وقوعہ کی تاریخ و وقت</p>	<p>تاریخ وقوعہ کی تاریخ و وقت</p>

ابتدائی اطلاع نیچے درج کروا گیا ہے۔

معلومات حاصل ہوئی کہ صاحبان کے مطابق ہم جگہ منیر گارڈ میں چکنائو انظار درنگ
 والا وہیں موجود ہے۔ کہ نظار ولد عبدالغفار ساکنان بار حسین
 اور وسیم ولد عبدالغفار ساکنان بار حسین سے مل کر ۱۵/۰۹/۲۰۱۷ کو
 کے ذریعے دوبارہ ایسے درنگ میں غیر قانونی وائٹنگ و ترسیل شروع کیا۔ اور ٹرانڈر ٹرانزیشن
 کو اپنی معلومات ریت سے لوڈ کر رہے تھے، ہم نے عدالت چکر بالا افراد کو کسی نارینتا لید فریو
 بالا رقبہ میں پر قسم کی مفدی کاں کنی و ترسیل لید یا بڑی ہے اور DC صاحبان سے
 فلاحی رقبہ میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کیا ہے۔ لیکن ایسے باوجود ہی عدالت چکر بالا افراد کے درنگ
 دست اندازی پولیس جرم ہے۔ لہذا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ
 نظار ولد جمال اللہ، وسیم ولد عبدالغفار اور ایکسوٹر فیس اڈیشنر کچلاں جرم بالا دفعہ
 حق FIR درج فرما کر قانونی کارروائی کریں اور ایکسوٹر فیس کو اپنے جواب میں لیں
 ذیل FIR سے ہمیں لوڈ کر کے دستخط ایکٹری حسین احمد منیر گارڈ

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
DEPARTMENT OF MINES & MINERALS DEVELOPMENT

04-07-2020

04-07-2020

مقام محترم سیکرٹری، ڈپارٹمنٹ آف مائنز و مینرلز ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، اسلام آباد۔
موضوع: (1) 56 (ا) مائنز ایکٹ 1973 کے تحت مقررہ ضوابط کی تعمیل کے لیے درخواست۔

Yar Hussain (Swabi)
S.H.C
FATTEH

میں نے اپنے ذاتی طور پر سیکرٹری، ڈپارٹمنٹ آف مائنز و مینرلز ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، اسلام آباد سے درخواست کی ہے کہ میری درخواست کو منظور کیا جائے اور میرے لیے مقررہ ضوابط کی تعمیل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔
میں نے اپنے ذاتی طور پر سیکرٹری، ڈپارٹمنٹ آف مائنز و مینرلز ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، اسلام آباد سے درخواست کی ہے کہ میری درخواست کو منظور کیا جائے اور میرے لیے مقررہ ضوابط کی تعمیل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔
میں نے اپنے ذاتی طور پر سیکرٹری، ڈپارٹمنٹ آف مائنز و مینرلز ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، اسلام آباد سے درخواست کی ہے کہ میری درخواست کو منظور کیا جائے اور میرے لیے مقررہ ضوابط کی تعمیل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔

16101-9390765-3
0305-7595590

Handwritten signature

Handwritten name

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures



Aug - D 25



Directorate general Mines and Minerals
Khyber Pakhtunkhwa
Attached Departments Complex, Khyber Road Peshawar

No. DGMM/Admin/3/520/_____

Dated. 10/07/2020

To

1. Mr. Shahid Hussain, Mineral Guard
 2. Mr. Hussain Ahmad, Mineral Guard
 3. Mr. Hilal Ahmad, Mineral Guard
 4. Mr. Kashif, Mineral Guard
- c/o Assistant Director Mineral, Swabi

Subject: **SHOW CAUSE NOTICE**

I am directed to refer to your subject noted above and to enclose here with "Show Cause Notices". You are, therefore, directed to submit your written defense/reply within seven days of the receipt of this letter.

Encl As Above:

Assistant Director (Admin)
H/Q Office, Peshawar.

Dated: 13/07/2020

Endst: No. 3/520-DGMM/Admin/ 10307-11

Copy forwarded to :

1. PS to Secretary Minerals Development Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. PA to Director General Mines and Minerals Khyber Pakhtunkhwa.
3. Section Officer (Estt:) Minerals Dev: Dept:, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- ✓ 4. The Assistant Director Mineral, Swabi with the advice to handover the show cause notices to concerned officials.
5. P/F of concerned officials.
6. Master File.

for Assistant Director (Admin)
H/Q Office, Peshawar.

ATTESTED

(2)

SHOW CAUSE NOTICE

1. Hameed Ullah Shah Director General Mines & Mineral], as Competent Authority, under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 2011, do hereby serve you, Mr. Hilal Ahmad, Mineral Guard, as follows:

- (i) Secretary Minerals and Director General Mines & Mineral paid surprise visit to the said area on 10.07.2020, and found that two excavators were unauthorizedly working in the said area and illegal transportation was found and witnessed on the site.
- (ii) You were found absent from the site despite the fact that considerable time was spent on the site.
- (iii) Your this act is an evidence non-performing of your official duties which is misconduct & inefficiency on your part.


I am satisfied that you have committed the following acts/omissions specified in rule 3(b) .5(b)(ii) and 7 of E&D rules 2011.

- (a) _____
- (b) _____
- (c) _____

2. As a result thereof, I, as competent authority, have tentatively decided to impose upon you the penalty of _____ under rule 4 E&D Rules 2011.


3. You are, thereof, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.

4. If no reply to this notice is received within seven days of its delivery, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case an ex-parte action shall be taken against you.



ATTESTED

Hameed Ullah Shah
Director General Mines & Mineral
Khyber Pakhtunkhwa



Mr. Hilal Ahmad, Mineral Guard
c/o Assistant Director Mineral Swabi

Annexure - E


(27)

BEFORE THE OFFICE OF DIRECTORATE GENERAL MINES AND MINERALS
KP ATTACHED DEPARTMENT COMPLEX KHYBER ROAD PESHAWAR

Subject : WRITTEN REPLY TO SHOW CAUSE NOTICE LETTER NO. DGMM
ADMIN 3/520/10307-11 DATED 13.07.2020 ON BEHALF OF 1. SHAHID
HUSSAIN 2. HUSSAIN AHMAD 3. HILAL AHMAD AND KASHIF MINERAL
GUARDS.

In pursuance of show cause notice letter No. DGMM ADMIN 3/520/10307-11 DATED 13.07.2020 the above name mineral guards submit as under to explain our position for the charges level against them in para wise as mentioned in the show cause notice .

Sir on the event full day dated 10.07.2020 we all Menial Guards were performing our duties and visit to Asif Area at about 10:50 where we found an illegal mining there with the help of excavation machinery .All at once we drafted mursaila on the spot at about 11:00 AM against the area owner Asif and Shakeel . After fulfilling the necessary proceedings of murasila , we have been informed that another Durang owner namely Nizar is also busy in illegal mining's, we rush to the adjacent area , where we found that another excavation machinery is busy in an illegal mining . At about 11:30 we drafted a murasila against the illegal miners Nizar and waseem under the law and rules .Then we all proceeded to police station and reached at about 12:15 to police station for converting Murasila to FIR. We all present there and spent about 30 minutes inside the police station while conducting legal action against the accused named above. We also made a written and oral request to the SHO concerned to impound both the


ATTESTED

excavators standing within the areas which are indulged in the illegal mining in the said areas. After completion of legal proceeding we rush back to the area while on the way we prayed juma at market masjid in village Yar Hussain at 01:15 PM dated 10.07.2020. After Performing Juma prayers we once again proceeded to words the said areas we reached at about 02:00 PM to the areas , so then we were tolled that your's kind good self alongwith honourable Secretary mines have paid visit to the areas under discussion. (Copies of both the murasila are hereby attached with reply).

Moreover we all the above named Mineral Guards also feels necessary to bring to your kind notice and attention that on each and every day during our duties we are threaning by the illegal miners of the areas for dear consequences.

Sir,

With the humble submission all the attached murasila are self explanatory in have evidentiary proof of our duties on the area. Though we performs our duties regularly and honestly still we a sure your's kind good self to be very much care full in future.

Dated 20.07.2020

Your's Obediently

Mineral Guards

1. SHAHID HUSSAIN
2. HUSSAIN AHMAD
3. HILAL AHMAD
4. KASHIF



[Handwritten signature]
ATTESTED
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

29

Annexure F



**DIRECTORATE GENERAL OF MINES AND MINERALS
KHYBER PAKHTUNKHWA**

Attached Departments Complex Khyber Road Peshawar

Phone: 8 Fax # 091-9210236

No. /DGMM/Admin/(Hazara Division)

Dated: /07/2020.

To

1. Mr. Shahid Hussain, Mineral Guard (BPS-03)
2. Mr. Hussain Ahmad, Mineral Guard (BPS-03)
3. Mr. Hilal Ahmad, Mineral Guard (BPS-03)
4. Mr. Kashif, Mineral Guard (BPS-03)

c/o Assistant Director Mineral, Swabi

Subject: **SHOW CAUSE NOTICE**

I am directed to refer to your reply of show cause notice dated: 20-07-2020 and to state that the Competent Authority has considered your reply and decided to call you for personal hearing on 27-07-2020 Monday at 11:00 AM.

You are advise to attend the H/Q Office; in case of failure ex-parte decision shall be taken against you under E&D Rules 2011.

Assistant Director (Admin)
HQ Office Peshawar

Enclst: No. 11436-41 /DGMM/Admin/ (Hazara Division)

Dated 23 /07/2020.

Copy forwarded to:

1. PS to Secretary Minerals Development Department Khyber Pakhtunkhwa
2. PA to Director General Mines and Minerals, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Section Officer (Estt.) Minerals Development Department, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
4. The Assistant Director Mineral, Swabi for information.
5. P/File of Officials concerned.
6. Master File/DGMM/Admin/2020.

Assistant Director (Admin)
HQ Office Peshawar

ATTESTED

Annexure - G

30

TO BE SUBSTITUTED EVEN NUMBER AND DATE



**DIRECTORATE GENERAL OF MINES AND MINERALS
KHYBER PAKHTUNKHWA**

Attached Departments Complex Khyber Road Peshawar

Phone: & Fax # 091-9210236

No. 11670/3-520/DGMM/Admn

Dated: 27/07/2020

OFFICE ORDER.

1. WHEREAS Mr. Hilal Ahmed, Mineral Guard (BPS-03), Office of Assistant Director Mineral, Swabi was proceeded against under Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 on the charges mentioned in the show cause notice.
2. AND WHEREAS the Competent Authority is satisfied that you have committed the acts/omissions specified in Rule 3(b), 5(b)(ii) and Rule-7 of E&D Rules 2011.
3. AND WHEREAS, the Competent Authority/Director General Mines & Minerals, Khyber Pakhtunkhwa also afforded the opportunity of personal hearing to the accused official.
4. NOW THEREFORE, the Competent Authority in exercise of powers conferred under Rule 4(1)(b)(iii) of Khyber Pakhtunkhwa Government Servant Efficiency & Discipline Rules-2011 imposed major penalty of "Removal From Service" upon the accused official with immediate effect.

Sd/-
Director General Mines & Mineral
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Endst: No. 11671-78/3-520/DGMM/Admn

Dated: 27/07/2020

Copy is forwarded to:

1. PS to Secretary Minerals Dev: Department, Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. PA to Director General, Mines & Minerals, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. The Director Licensing (North), H/Q Office, Peshawar.
4. The District Accounts Officer, Swabi.
5. Assistant Director (Accts), H/Q Office, Peshawar.
6. Assistant Director Mineral, Mardan/Swabi.
- ✓ 7. Mr. Hilal Ahmad, Mineral Guard, Office of Assistant Director Mineral, Swabi.
8. P/File of the official concerned.
9. Master File.

ATTESTED

Assistant Director (Admin)
H/Q Office, Peshawar.

Amendment - II

31

110

To

The Secretary,
Mineral Development Deptt,
K.P.K, Peshawar.

2790

13-08-2020...

Through proper channel.

Subject:-Representation against the order of
The D.G, Mines and Mineral, Development
Department, Peshawar, Dated 27-07-2020, Containing
removed from service.

Sir,

With reference to the above captioned order,
whereby I my awarded the penalty of "Removal from
Service", on alleged disciplinary grounds.

It is submitted that the impugned order is void,
and illegal, against the relevant rules, based on
incorrect & false grounds, as well as against the
principles of natural justice. Hence, the same is
liable to be set-aside and I may be re-instated in
service with back service benefits:-

1. That the allegations leveled against me are incorrect and false. I had never committed the alleged offences.
2. That I had always performed my duties regularly, deligently, efficiently and with great zeal of mind.
3. That I am not afforded the opportunity of proper defence. Thus, I am condemned unheard

ATTESTED

Diary No. 243
Date: 18/08/2020

Handwritten notes and signatures including "D.P.A. M.", "S. (A)", "12/8", and "C.O. (A)".

(2)

(32)

111

4. That my defence point is not taken into consideration.

5. That the material point is kept out of consideration that at the time of visit of the Secretary, I had gone to Police Station Yar Hussain Swabi for lodging report against the illegal excavation & transport on 10-07-2020, the illegal transporters of mineral (the sand) were charged by Hussain Ahmad and Kashif, the mineral guards, one after the other.

On demand of the Police for production of supporting witnesses, I alongwith Hilal Ahmad went to the police station Yar hussain Swabi for recording our statements in support of the murasilas, submitted by the aforementioned guards.

We remained busy in the police station till 01:00 PM. Thereafter, I alongwith other colleagues offer juma prayer in village Yar Hussain Swabi and thereafter we proceeded back to the spot.

I also recorded my statement before The Police in-connection with the complaints/murasilas lodged by other mineral Guard, present in the Police Station Yar Hussain.

Thereafter, I along-with my other colleagues offered "Juma Prayer" in Yar Hussain Swabi & then I proceeded to my place of duty.

(Copies of relevant Murasilas are Attached).

On arriving back to the spot, I learnt that the Higher Authorities had visited the spot, when I was away to Pulice Station.

Sir, it is added that we the mineral Guards are not provided the Motorcycles alike the other department and provinces.

Hence, it takes us long time to walk on foot and through public transport for travelling towards the performance of our duties to supervise the distantly

APPENDED

(3) (38)

112

situated excavation spots (درخت) and to Police Station, when needed.


6. That the perusal of the Show Cause Notice would show that it is not drawn according to the relevant rules.

7. That the penalty is too harsh.

It is requested that on acceptance of this representation, the impugned order may be set-aside and I may kindly be re-instated into service with back service benefits.

Dated:- 10-08-2020.

Your's Obediently,


(Hilal Ahmad)
Ex Mineral Guard
Under The Assistant
Director, Mineral
Development, Mardan.


ATTESTED



34

109

Government of
Khyber Pakhtunkhwa
Minerals Development Department

No. SO (E)/MDD/2-45/2020 / 8081
Dated Peshawar, August 24, 2020

To
The Director General,
Mines & Minerals,
Khyber Pakhtunkhwa.

Subject: REPRESENTATION AGAINST THE ORDER OF THE DIRECTOR GENERAL OF MINES AND MINERALS, DEVELOPMENT DEPARTMENT, PESHAWAR DATED 27.07.2020, CONTAINING REMOVED FROM SERVICE.

I am directed to enclose herewith an Appeal addressed to Secretary to Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, Minerals Development Department / appellate authority, lodged by one Mr. Hilal Ahmad, Ex-Mineral Guard (BS-03) of the Directorate General, Mines & Minerals, Khyber Pakhtunkhwa alongwith its enclosures on the subject noted above for para-wise comments on the said appeal as per Rule-4 (2) of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants Appeal Rules, 1986.

DAIT
24/8/20

(Hafiz Abdul Jalil)
SECTION OFFICER (ESTT.)

Encls: As above.
Endst: No & Date even:

Copy for information is forwarded P.S to Secretary to Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, Minerals Development Department.

SECTION OFFICER (ESTT.)

ATTESTED

To-day
PA to ADG 25/8/20

ADG
24/8/20



25.8.20
DD (Admin)

23
25/8/20

AD (A)

25/08/20

35

122



**DIRECTORATE GENERAL OF MINES AND MINERALS
KHYBER PAKHTUNKHWA**

Attached Departments Complex Khyber Road Peshawar
Phone: & Fax #091-9210236

No. 21497 /3-520/DGMM/Admn

Dated: 04 /11/2020

To
Section Officer (Establishment),
Minerals Development Department,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: REPRESENTATION AGAINST THE ORDER OF THE DIRECTOR GENERAL OF
MINES AND MINERALS, DEVELOPMENT DEPARTMENT, PESHAWAR DATED:
27.07.2020, CONTAINING REMOVED FROM SERVICE.

I am directed refer to refer to your letter No. SO(E)/MDD/2-45/2020/8081 dated: 24-08-2020 on the subject noted above and to enclose herewith para-wise comments in respect of Mr. Hilal Ahmad, Ex-Mineral Guard (BS-03) of this Directorate in the instant case for further necessary action, please.

Encl: As above

[Signature]
o/c Assistant Director (Admin)
H/Q Office, Peshawar.

[Signature]
2020-11-04

PARA WISE COMMENTS ON THE DEPARTMENTAL APPEAL LODGED BY MR. HILAL AHMAD MINERAL GUARD (BPS-03) OFFICE OF ASSISTANT DIRECTOR MINERALS, MARDAN AGAINST THE ORDER DATED: 27-07-2020, CONTAINING REMOVED FROM SERVICE.

REPLIES:

Para No. 1. Reply to para-1 is incorrect. It is stated that the allegations leveled against the accused official are correct and true.

Para No. 2. Reply to para-2 is incorrect. It is stated that the accused official was found absent from the site during visit of Secretary Mines & Minerals Development Department & Director General Mines & Minerals on 10-07-2020 despite the fact that considerable time was spent by high authorities on the site, which shows negligence, willful absence and misconduct on the part of accused official.

Para No. 3. Reply to para-3 is incorrect. The accused official was given a proper opportunity of personal hearing on 27-07-2020 by Director General Mines & Minerals.

Para No. 4. Reply to para-4 is incorrect. The accused official did not prove himself innocent nor satisfied the Competent Authority with his reply.


Para No. 5. Reply to para-5 is incorrect. Details in para-2, above while rest of para is irrelevant.

Para No. 6. Reply to para-5 is incorrect. The Show Cause Notice served to the accused official under E&D Rules-2011.

Para No. 7. Reply to para-7 is incorrect. Due to negligence, willful absence from site, there was huge loss to the provincial exchequer, therefore penalty imposed upon accused official with in accordance to E&D Rules, 2011 and justified.

In view of the above narrated position, it is humbly prayed that the appeal of the appellatant is having no legal footing therefore may be dismissed, please.




Assistant Director (Admin)
H/Q Office, Peshawar.



37

Directorate general Mines and Minerals
KHYBER PAKHTUNKHWA
Attached Departments Complex, Khyber Road Peshawar

No. DGMM/Admin/3/520/_____

Dated. ____/02/2021

To

The Assistant Director
Minerals Development Department
Swabi.

Subject: **REPATRIATION AGAINST THE ORDER OF THE DGMM, PESHAWAR
DATED: 27.07.2020 CONTAINING REMOVAL FROM SERVICE.**

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose here with letters (in original) received from Section Officer (Estt:) Minerals Development Department, Khyber Pakhtunkhwa in respect of the following accused officials with the advice to hand over the same and to furnish the receipt of acknowledgement.

1. Mr. Shahid Hussain, Ex-Mineral Guard.
2. Mr. Hussain Ahmad, Ex-Mineral Guard.
3. Mr. Hilal Ahmad, Ex-Mineral Guard.
4. Mr. Kashif, Ex-Mineral Guard.

Encl: As Above

Assistant Director (Admin)

H/Q Office, Peshawar.

Dated: 16 /02/2021

Endst: No. 3/520-DGMM/Admin/ 3906-12

Copy forwarded to:

1. PA to Director General Mines and Minerals Khyber Pakhtunkhwa.
2. Section Officer (Estt:) Minerals Development Department, Khyber Pakhtunkhwa, for information please.
- ✓ 3. P/F of concerned officials. *Mr. Hilal Ahmad Mineral Guard*
4. Master File DGMM/Admin/2021.

Assistant Director (Admin)

H/Q Office, Peshawar

ATTESTED



(38)

**Government of
Khyber Pakhtunkhwa
Minerals Development Department**

No. SO (E)/MDD/2-45/2020
Dated Peshawar, 8th February, 2021

To

Mr. Hilal Ahmad, Ex-Mineral Guard,
Office of Assistant Director, Swabi.

C/O, Director General,
Mines & Minerals,
Khyber Pakhtunkhwa.

Subject:

**REPRESENTATION AGAINST THE ORDER OF THE DGMM PESHAWAR
DATED 27.07.2020 CONTAINING REMOVAL FROM SERVICE**

I am directed to refer to your departmental appeal dated 10-08-2020, on the subject noted above and to state that the Appellate Authority i.e. the Secretary, Minerals Development Department, Khyber Pakhtunkhwa has considered your appeal and rejected.



(Hajiz Abdul Jalil)
SECTION OFFICER (ESTT:)
Ph#091-9223559

Endst: No & Date even:

Copy is forwarded for information to:

1. Assistant Director (Admn), Directorate General of Mines & Minerals, Khyber Pakhtunkhwa, w.r.t his letter No.21497/3-520/DGMM/Admn, dated 04-11-2020.
2. PS to Secretary to Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, Minerals Development Department.
3. PA to Additional Secretary-I, Minerals Development Department.

SECTION OFFICER (ESTT:)



39

DIARY

Diary Serial No.	No. and Date of document received	From whom received	File	Special Instructions
2404	23-02-2021	Affidavit of citizens	DC	3726
		Diast. Swabi	ITM	
		Munsif Assesment file		
2405	d-	Notice for Non	DC	3727
		Payment of outstanding		
		Grand Ducu		
2406	24-2-2021	Representation against the	Shahid Hussain	<i>[Signature]</i>
		DC main	Hussain	
2407	d-	Representations against the	Hussain	<i>[Signature]</i>
		order of the DC main	Ahmed	
2408	d-		Hilal Ahmad	<i>[Signature]</i>
2409	d-		Kasif	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 Assistant Director (Tech)
 Mineral Development
 Swabi

ابتدائی اطلاع رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۳ مجموعہ ضابطہ فوجداری

یاد رسید

صوبائی ضلع

تاریخ وقوع وقوعہ 06/07/2020 وقت 07:15

علی 466

19

تاریخ وقوع وقوعہ 06/07/2020 وقت 07:15	یاد رسید
تاریخ وقوع وقوعہ 06/07/2020 وقت 08:45	یاد رسید
مذکورہ سکونت اطلاع دہندہ مستغیث 16201-6218857-1 ماتنی کارڈ نمبر/موبائل نمبر 0345-5175000	لال احمد منزل گادڑ
شکر کیفیت جرم (معدہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	56% شہدوں (۷) خبر کھنڈا خواہ منزل سکونڈری
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	غیر ملکہ شدہ رقبہ جگہ (بھت زمین درنگ)
نام و سکونت ملزم ماتنی کارڈ نمبر/موبائل نمبر	0346-9801408
کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	بھت زمین ولد سید اکبر سکندیا رسید ملکہ حیدر علی
تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	سہ سبیل ڈاک

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ سر اسلمہ صوبہ ضابطہ صنعت مندرجہ
 نمبر بہ صفوں ذیل ہے۔ ضابطہ ۱۱۵ صوبہ ضابطہ یاد رسید ضابطہ ۱۱۵
 کی جان صغیرہ اسٹیٹ ڈائریکٹر معدنیات مردان ڈویژن مردان ضلع ملکہ
 ہم غیر ملکہ شدہ رقبہ جگہ موقع پورے اور وہاں دیہات مندرجہ ذیل افراد
 طور پر ہمارے پاس کے پاس میں معروف ہیں جس کے نام درج ذیل ہے۔ بھت زمین ولد سید اکبر
 یاد رسید ملکہ حیدر علی 0346-9801408 لہذا یہ صاحبان سے التماس ہے کہ مذکور
 رقبہ جات پر غیر قانونی طور پر جاری کام کو روکنے کے لئے ضروری اقدامات کریں اور
 افراد کے خلاف دفعہ 56 شہدوں (۷) خبر کھنڈا خواہ منزل سکونڈری تحت FIR درج کر
 قانونی کارروائی عمل میں لائیں اور باقیمتانی بن رقبہ جات پر جاری کام کو مکمل طور
 پر بند کر لیں 0345-5175000 ملکہ 16201-6218857-1 CNIC القاضی
 رتد نیس لال احمد منزل گادڑ وقوعہ 06/07/2020 لیس اعدہ سر اسلمہ صرف ہم و
 بالذکر بقول FIR ہم سر اسلمہ ہر اول تفتیش حوالہ سبب افراد الطاف
 خان آگے لے جاتے ہیں۔ یہ سبب گزارش ہے

10

فارم نمبر ۲۳-۱۵

0340 9255146 وسیم

0340 9362998 نظار

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۲ مجموعہ ضابطہ فوجداری

یار حسین خلع صوابی

32 179 تاریخ وقت وقوع 23 3/20 وقت 2:25AM

تاریخ وقت رپورٹ	23 3/20 وقت 2:40AM	حاکم دگی برج 4/20 وقت 7:30
دسکونٹ اطلاع و مہندہ مستغیث	بلال احمد منزل گارڈ صوابی	
رکیفیت جرم (معدنہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	(i) 86'56 (ii) 86'56	سیدول (۷) حیدر خٹوخواہ منزل سکیر
تے وقوعہ فاصلہ تھانہ اور سمت	جلناہ (نظارہ دنگ)	
سکونٹ ملزم	① وسیم ولد نامعلوم ② نظار ولد نامعلوم	سالکان یار حسین
اے جو تفتیش کے متعلق کی گئی اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	یہ رسیدی مراسلہ ہم مقدمہ درج رہا ہے	
تے روانگی کی تاریخ و وقت		۲۰ سبیل ڈاک

اے اطلاع نیچے درج کرو۔ اس وقت ایک تحریری مراسلہ موصولہ منجانب مستغیث مہندہ خانہ نمبر ۲ موصول ہو کر یہ مضمون ذیل ہے جناب ۵:۴۰ صبح تھانہ یار حسین جناب عالی اجازت کی جاتی ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر معہریات مردان ڈویژن مردان کے حکم کے مطابق ہم غیر لیز شدہ رقبہ جلناہ ادنی معہریات کے موقع پر گئے اور وہاں دیکھا کہ مندرجہ ذیل افراد غیر قانونی طور پر کان کنی کے کام میں مصروف ہے جن کے نام مندرجہ ذیل ہے ① وسیم ولد نامعلوم ② نظار ولد نامعلوم سالکان یار حسین لہذا آپ صاحبان سے التماس ہے کہ مزکورہ رقبہ جات پر غیر قانونی طور پر جاری کام کو روکنے کے لئے ضروری اقدامات کریں اور ملوث افراد کے خلاف دفعہ (1) 56 سیدول (۷) حیدر خٹوخواہ منزل سکیر کے تحت FIR درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائیں اور تا حکم ثانی ان رقبہ جات پر جاری کام کو مکمل طور پر بند کر لیں۔ العارض بلال احمد منزل گارڈ صوابی دستخط انگریزی بلال احمد منزل گارڈ صوابی فورم 7 4/20 پس آمدہ مراسلہ حرف بہ حرف درج بالا ہو کر برج ۴۴ فوقہ قریب کرنے کے بقول FIR ہمہ مراسلہ ہمراہ تفتیش حوالہ شہانہ خان کی چھوڑے جاتے ہیں۔ پرچہ اجازت ہے

ZAM/ PASI ڈیشان
PASI 125 V14

ATTESTED

ابتدائی اطلاع نسبت قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زبردفعہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ فوجداری

تاریخ وقوع وقوعہ	493	46
تاریخ وقوع وقوعہ	23:45 وقت 20/06	تاریخ وقوع وقوعہ
تاریخ وقوع وقوعہ	21/06 وقت 20:25	تاریخ وقوع وقوعہ
نام و سکونت اطلاع دہندہ مستفیث	بلال احمد منیر / مادو	نام و سکونت ملزم
شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر	0345-5175000	شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر
مختصر کیفیت جرم (معہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	56 منزل ایکٹیوڈورنس انسپکشن 2017	تعمیر کیفیت جرم (معہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	یارکین MCB بینک (Bank)	جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت
نام و سکونت ملزم	03015135309	نام و سکونت ملزم
شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر	رحمان جان ولد صیال جان سائن گروں	شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر
کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	بدرسدنی سربراہ مقدمہ درج و دستاویز لکھا جاتا ہے	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو
تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بہ سیکرل ڈاک	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت

بعضوں ذیل ہے۔ جہاں ۱۴۵ صوبہ تھانہ یارکین انسپکشن ڈائریکٹوریٹ
 عدلیہ صوبہ (ڈویژن) کے قلم لیا جانے وقوعہ پر پھر سے چیکنگ معدنیات موجود تھا کہ
 چیکنگ کے دوران ایک گاڑی نمبر TKX 153 ڈرائیور سی رحمان جان ولد صیال جان سائن گروں
 گروں حویلی ٹیلی نمبر 03015135309 ٹولڈر چلان چیک کرنے کی ٹکڑی سے ٹھہرا گیا جس میں تقریباً
 26 ٹن ادنی معدنیات غیر موجود تھا۔ جب ڈرائیور سے گاڑی میں موجود معدنیات کی جان پوری اور
 ترسیل کے لئے سرکار سے اجازت نامے کے متعلق دریافت کیا تو وہ کچھ بھی پیش نہ کیا
 جس سے صاف ظاہر ہے کہ مذکورہ مال ڈرائیور پر معدنیات غیر قانونی طور پر لے جا
 رہا تھا جو کہ قابل دست اندازی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں تھانہ یارکین
 کے گاڑی نمبر TKX 153 ڈرائیور سی رحمان جان ولد صیال جان سائن گروں کے خلاف
 زیر دفعہ ۱۴۵ کے تحت ایف آئی آر درج فرما کر ضروری کارروائی میں لود شدہ گاڑی اور
 مال مقدمہ سرکار سے قبضہ میں لے لیں اور نقل FIR سے نوازیں اہلکاروں دستخط انگیز
 بلال احمد منیر / مادو 16201-6218857-1 0345-5175000 لیس آفیس سربراہ مقدمہ
 درج مال بھرتی نقل FIR مع سربراہ مقدمہ لیس آفیس سربراہ مقدمہ
 آئی گئے جائے سے پھر دست اندازی ہے

(محمد) Atteced

ابتدائی اطلاع رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۳ مجموعہ ضابطہ فوجداری

ضلع سو اسی

یار حسین

13

510

تاریخ وقت وقوعہ 27/02/2017 وقت 4:45 ص 5

تاریخ و وقت رپورٹ	27/02/2017 وقت 2:25 ص 6	تاریخ و وقت وقوعہ	27/02/2017 وقت 4:45 ص 5
نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	بلال احمد منزل دار	شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر	2017
مختصر کیفیت جرم (معدہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	(1) 28/02/2017	نام و سکونت ملزم	سیمنٹ / لاہور / لاہور
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	جگہ محلہ (سیمنٹ / لاہور)	شناختی کارڈ نمبر / موبائل نمبر	سیمنٹ / لاہور / لاہور
کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	بہر اسلئے کہ...	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بہر اسلئے کہ...

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو ہے۔

بلال احمد منزل دار نے اطلاع دہندہ کے مطابق...

مختصر کیفیت جرم (معدہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔

جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت

کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو

تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت

ATTESTED

ASIP 57-11

گورنمنٹ پولیس پشاور جاب نمبر 2286/13 فارم نمبر 13/20.06.2011 (فارم نمبر جاری) محلی فارم (پولیس)

فارم نمبر ۲۳-۵ (۱)

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۳ مجموعہ ضابطہ فوجداری

یا رخصت

ضلع اسواری

400

تاریخ وقت وقوعہ ۱۵ صبت ۲۰/۵ ۹:۱۵pm

تاریخ وقت رپورٹ

م سکونت اطلاع دہندہ مستفیض ۱۱ صبت ۲۰/۵ ۹:۲۵pm

م سکونت اطلاع دہندہ مستفیض ۱۱ صبت ۲۰/۵ ۹:۲۵pm

تقریر کیفیت جرم (معد دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔ ۱۷ صبت ۲۰/۵ ۹:۵۵

تقریر کیفیت جرم (معد دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔ ۱۷ صبت ۲۰/۵ ۹:۵۵

ع وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت ۱۷ صبت ۲۰/۵ ۹:۵۵

سکونت ملزم حکمانہ (نظارہ درنگ)

وادی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہو اہو تو وجہ بیان کرو
سے روانگی کی تاریخ و وقت

ابتدائی اطلاع نچے درج کرو...
۱۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۲۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۳۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۴۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۵۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۶۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۷۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۸۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۹۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...
۱۰۔ حکمانہ صاحبہ نے اطلاع دی کہ...

۵۷۱-۵۵-۷۸

ATTACHED

فارم نمبر ۲۳-۱۵

188521
03455175

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

47

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل است اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۳ مجموعہ ضابطہ نوجواری

ضلع پشاور تحصیل پشاور

تاریخ وقت وقوعہ $3 \frac{5}{20}$ وقت ۱۳:۳۵ بجے

مقام وقوعہ $3 \frac{5}{20}$ وقت ۱۳:۴۵ بجے

مقام وقوعہ (حال اگر کچھ لیا گیا ہو) - ۵۶ منزل آریڈ

نام سے اور سمت پشاور، چھوڑا اور سید روڈ سوسائٹی

خبر دہندہ کی شناخت خیر نصیر ولد نصیر خان مسکن باجاولہ ٹیپا پشاور

تعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو یہ سیکرٹ ہے اور نہ ہی اسے درج کرنا چاہیے

تاریخ وقت بہ بسیل ڈاؤن

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو اور اس کے ساتھ ہولہ معائنات مستقیم مندرجہ ذیل ممبر ۲ نے ممبروں کے ذریعہ کیا۔

مقام SHO پشاور۔ حقا نے پشاور میں گزارش سے

پہلے پہلے اس وقت ڈائریکٹر صدر بنات صدر ان ڈویژن کے مقام پر جانے وقوعہ پہلے پہلے

یکم تک صدر بنات موجود تھا کہ چیکنگ کے دوران ایک گاڑی نمبر 2613RIS ڈرائیور

پشاور خیر نصیر ولد نصیر خان نمبر 03069359512 ولد نصیر خان مسکن باجاولہ ٹیپا آباد

ڈرائیور کے نام سے مل گیا اور اس کے پاس گاڑی کے بارے میں کچھ اسیا نہیں

میں لکھیے 26 جن آدمی بہت موجود تھا جب ڈرائیور سے گاڑی میں موجود ہونے

کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق دریافت کیا گیا

وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا اس سے صرف پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق

تعمیرات اور غرض کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے اور اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کون سا گاڑی ہے

افتخار

ASI P.S. 4/11

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ فوجداری

تھانہ _____ ضلع _____ ہوائی _____
 نمبر 40 تاریخ و وقت وقوعہ ۱۷/۲/۲۰۱۷ وقت ۲:۵۵PM

1-	تاریخ و وقت رپورٹ	۱۷/۲/۲۰۱۷ وقت ۵:۵۵PM
2-	نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	یلال احمد منزل ٹکارڈ
3-	مختصر کیفیت جرم (معد دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	۵۰۶-۱۸۶-۸۶-۳۴
4-	جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	حکمانہ پار (دوڑا)
5-	نام و سکونت ملزم	مشکیل ولد حسن الحاج (2) مسجاد ولد منیر اکبر خان مارصن
6-	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اور اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	نہ سیرنگ میرا سلاہ پر مقدمہ درج ہو رہا ہے
7-	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	نہ سیرنگ ڈاکٹر

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ میرا سلاہ میرا عدوانہ صنفیت ملزمہ، خانہ نمبر ۲۲ مورس سڑک پر منزل خربل سے
 SHO صاحبت خجاندہ ریادھین میں منسی یلال احمد بعد ستانہ منزل ٹکارڈ تکم استانت ڈاکٹر یکے نوہ سنات ہوا
 ادبی معدنیات پر لٹے کے سلسلے میں حکمانہ پار (دوڑا) میں ڈیڑی نوہ سیر انجام دیا گیا ہے۔ میرا سلاہ حکمانہ پار میں اسٹینڈ
 ڈھکی کتہ لہواری نے سیر کانٹری کاٹنگ رہنریل پر پانڈی سائٹ کی ہے۔ مذکورہ وقت میں سیرنگ لہواری ایلکاروں کے وقت
 تھانہ سے روانگی دیکھی گئی تھی۔ دوران فریڈمی میں میرا سلاہ اور افراد میں سیر کاری ایلکاروں کے ساتھ ہر سیر کی
 اور ایلکاروں کے ساتھ ہاتھ پائی بھی تھی۔ میرا سلاہ اور افراد میں سیر کاری ایلکاروں کو جہ پڑنے کی پڑاہ
 بہار اب ہمدان میرا پائی محرم سیر اور ڈیکل مشنر پیدا اور خود سیر افرادوں کے خلاف دفعہ ۵۰۶-۱۸۶-۳۴
 بندی طے۔ یہ دفعہ سنات حکمرانہ یا استلائی ڈاک کے ملکیت ہے۔ نام درج ذیل ہے (1) مشکیل مولد
 اکاب صاحبیل مندا ۵۰۶-۱۸۶-۳۴ (2) مسجاد ولد حسن الحاج مولد صاحبیل مندا ۵۰۶-۱۸۶-۳۴
 سیرنگ میں مذکورہ افراد کے خلاف درج بالا اوصاف کے تحت کانٹری کارروائی کی جانے والا
 دستخط کنٹریکٹ یلال احمد منزل ٹکارڈ صرف ۱۷/۲/۲۰۱۷ میں آمد میرا سلاہ صرف ۲۲/۲/۲۰۱۷ میں سیرنگ بہار
 وقت درج کر کے قبول FIR اور میرا سلاہ اور والد انور کی شناخت کے وقت میں اس کے بارے
 #11
 H. Adis #11
 24-2-2017

ATTESTED

24-2-2017

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۲ مجموعہ ضابطہ فوجداری

یادیں _____ ضلع _____ ہوائی _____

41 _____ 88 _____ تاریخ وقت وقوعہ $20 \frac{2}{20}$ وقت 13:30 بجے

تاریخ و وقت رپورٹ $20 \frac{2}{20}$ وقت 14:00 بجے	تاریخ و وقت وقوعہ $20 \frac{2}{20}$ وقت 13:30 بجے
نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث بلال احمد مندل ٹھکانہ	نام و سکونت ملزم 16201-6218857-1 0345-5175000
مختصر کیفیت جرم (معدومہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔ 56/86 مندل سٹریٹ گورنمنٹ ایلیٹ 2017 حیدر خٹو ٹوران	
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت گجرات (اف ڈنگ)	
نام و سکونت ملزم 1 اسیر علی ولد نامہ نامہ ساکنہ گجرات (2) اف ڈنگ	
کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو در سیدہ فراہ سے دریافت کر کے درج کروا کر	
تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بہ سبیل ڈرائے

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ سر سیدہ فراہ سے دریافت کر کے درج کروا کر۔ سر سیدہ فراہ کا مندرجہ ذیل موصول ہو کر یہ ملزمین و گنہگاروں کی جاتی ہے۔ کہ حکم اسٹیشن ڈائریکٹر علیہ حد نہایت ہوائی و مطالبہ کام از بد دستخطی مندر خبہ نہن فیلنگ گلہانہ آف ڈنگ کے وقوع پر ایسی لٹریچر ایڈیٹر اسدی علی ولد نامہ معلوم سٹیٹ گلہانہ عیدینہ شدہ رقبہ میں عیدینہ لٹریچر ڈنگ و ڈنگ میں موصول تھا۔ 2017 کے ڈنگ بائیکان اولاد وارث خان سنگھ نیکے نام پر حسین کور اریس ولد مندل ایلیٹ 2017 حیدر خٹو ٹوران عیدینہ شدہ رقبہ میں ڈنگ ٹھکانہ ہوا ہے۔ ہوائی نے دفعہ 144 بھی نافذ کیا ہے۔ اسلئے باوجود مذکورہ بالا اندازہ علیہ حد نہایت سبباً لگنے کے اور بندہ بہ بالا دفعات کی کھلم کھلا خلاف کر رہے ہیں مذکورہ بالا کا یہ عمل عیدینہ لٹریچر اور قابل دست اندازی پولیس مرحلہ کہہ اب ہا کی حدت میں عرفی جاتی ہے۔ کہ ایڈیٹر اسدی علی ولد نامہ معلوم و درنگ گلہانہ آف ڈنگ وارث اور اریس ولد مندل ایلیٹ نے ملاف سے بالا دفعات کے نوٹ فائر و نوٹس لٹریچر کارروائی کے لئے فائر سے میں نوٹس لٹریچر ایلیٹ 2017 حیدر خٹو ٹوران سے ملنے کی اطلاع دینی بلال احمد مندل کارروائی کے لئے صرف 20 بجے کے وقت کے لئے صرف درج کر کے سر سیدہ فراہ سے دریافت کر کے درج کروا کر۔

طاران گدو
si ps 11
24-2-20

ATTESTED

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زبردفعہ ۱۵۲ مجموعہ ضابطہ فوجداری


ضلع	ضلع	تاریخ	وقت وقوع
ضلع	ضلع	27/02/02	وقت 8:00 PM
مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم	مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم
56 منزل سکٹر گورنمنٹ ایئر 2017	صیف ولد اچمل خان	56 منزل سکٹر گورنمنٹ ایئر 2017	صیف ولد اچمل خان
مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم	مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم
صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان
مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم	مکونت اطلاع دہندہ مستغیث	مکونت ملزم
صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان	صیف ولد اچمل خان

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ اس وقت ایک تحریریں سر اسٹیشن سے ملنے سے متعلق
 حاضرین نے پورے رپورٹ میں ملنے والے خطبات 5840 سے متعلق تمام بار بار اطلاع دہندہ مستغیث
 کے ساتھ ساتھ صدر سید سعید حسین جیلنگہ عدلیات سندھ بار افسانہ موجود تھا کہ ایک دفعہ سر اسٹیشن
 سے سزاوارڈ کا ضلع ہلال جلاریہ تھا گورنمنٹ اور عدلیات کے مکان کی اور سر اسٹیشن کے ایک سرکاروں اجازت
 نامے کے متعلق دریافت کیا تو وہ ایسی کسی قسم کی دستاویزی چیزیں سر اسٹیشن سے حاصل نہ
 کیے نہ مذکورہ بار بار اطلاع دہندہ عدلیات عدلیات کے طور پر بار بار اطلاع دہندہ بار بار اطلاع دہندہ
 دفعہ 56 منزل سکٹر ایئر 2017 کے قلم نگار عدلیات عدلیات کے اور قابل دست اندازی پولیس نامہ
 خانہ جرم سے لگا رہا تھا کہ سر اسٹیشن بار بار اطلاع دہندہ کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے
 قانون جاریہ جوئی کے حالت اور سر اسٹیشن کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے
 مال عدلیات کے قلم نگار ایئر 2017 کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے
 گورنمنٹ کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے
 صدر ایئر نکول FIR کے سر اسٹیشن کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے عدلیات کے

ایئر نکول
 411
 2120

ATTESTED

بعلالہ سرسوس ٹریڈنگ ایجنسی



2021ء پنجاب

8 مارچ

مورخہ

بلالہ احمد بنام حکمہ

مقدمہ

Service Appal

دعویٰ

جرم

باعث تحریر آنکے

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کاروائی متعلقہ

آن مقام سرسوس ٹریڈنگ ایجنسی کے لیے حقیقتاً الاسم کے مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک دروپیہ ارضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے وہ ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سندر ہے۔

المرقوم 8 ماہ 276 20

مکملہ
مقام

الع د گ و الع


کے لئے منظور ہے۔

مقام لٹا در

عدنان ششتری مارٹ
چوک ششتری بازار شی فون: 2220193
Mob: 0345-9223239

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Put up to the Honorable Chair - on
with relevant appeal



C M No _____ of 2021

In Re:

Appeal No 3528/2021

7/6/2021

Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar

Hussain District Mardan(Applicant/Appellant)

Second week of July, 2021, VERSUS

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Director
General Mines and Mineral at Peshawar

2. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary
Mines and Mineral at Civil Secretariat, Peshawar
3. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Mardan
4. Government /of Khyber Pakhtunkhwa through Assistant
Director Mines and Mineral District Swabi.....(Respondents)

Application for fixation of early date
in the above titled service appeal

Respectfully Sheweth: -

- 1) That the above noted appeal is pending adjudication before
this Honourable Court and date of hearing is fixed 07th
September, 2021.
- 2) That in the above noted case, the Respondents have
dismissed the Applicant/Appellant without any cause and



Applicant/Appellant is now facing severe financial crises, therefore, the urgency is required.

- 3) That it is the right of every citizen to be dealt with according to law and equal protection of law; and for quick disposal of the case as justice delayed justice denied, that's why judicial policy has been framed.
- 4) That there is no legal bar to allowing the application for early hearing in above noted case, as this Honourable Court has got ample inherent powers.

It is, therefore, respectfully prayed that on acceptance of this Application, an early date may graciously be fixed in above noted case for the best interest of justice.

Through:

Applicant/Appellant



(HAFEEZ UL ASAD SHANGLA)
Advocate
High Court, Peshawar

Dated:-03-06-2021

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR


Hilal Ahmad.....(Appellant)

VERSUS


Government of KP and others.....(Respondents)


AFFIDAVIT

I, Hilal Ahmad S/O Awal Sher R/O Mohallah Mama Jee Masjid Yar Hussain District Mardan, do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the contents of accompanying Misc Application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Honourable Court.

DEPONENT 
CNIC # 16201-6218857-1
Cell # 0345-5175000

Identified by:-


(HAFEEZ-UL-ASAD SHANGLA)
Advocate
High Court, Peshawar

ATTESTED
Mukhtar Ahmed Ghaznavi
Oath Commissioner
District Court, Peshawar

2-10-21

17/02

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE

TRIBUNAL PESHAWAR.

SERVICE APPEAL NO. 3528/ 2021

Hilal Ahmad..... **Appellant**

Versus

Government of Khyber Pakhtunkhwa etc..... **Respondents**

INDEX

S.No	Description	Annexure	Pages
1.	Affidavit	_____	01
2.	Comments	_____	02 - 04
3.	Office Order	A	5
4	Marasallas / F.I.R	B & C	06 - 12



Assistant Director (Admin)

On behalf of

Respondent NO. 01 & 02

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA

SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

SERVICE APPEAL NO. 3528/2021

Hilal Ahmad..... Appellant

Versus

Government of Khyber Pakhtunkhwa etc..... Respondents

AFFIDAVIT

I Muhammad Iqbal Superintendent (Admin), Directorate General Mines & Mineral do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the accompanying para-wise comments are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from Honorable Court.


DEPONENT



Identified by

1	7	3	0	1	-	1	5	7	1	3	9	0	-	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATTESTED



292

BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

Comments

In

Service Appeal **NO. 3528/2021**

Mr. Hilal Ahmad **Appellant**

VERSUS

1. The Director General Mines & Minerals, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
2. The Secretary Mines and Minerals Dev: Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. The Assistant Director Mines and Mineral, District Mardan.
4. The Assistant Director, Mines and Mineral, District Swabi..... **Respondents**

Comments on behalf of Respondents

Respectfully Sheweth:-

Comments on behalf of Respondents are submitted as under: -

Preliminary Objections: -

1. That the appellant has not come to this Honorable Tribunal with clean hands nor the appeal is based upon legal footing. Hence, the appeal is liable to be dismissed.
2. That appellants have got no cause of action or locus standi to file the instant appeal.
3. That the appellants are not entitled to any relief and this appeal is filed just to waste the precious time of this Honorable Tribunal.
4. This Honorable Tribunal has got no jurisdiction to entertain this appeal.
5. That the Appellant conceal the facts from this Honorable Tribunal

Facts: -

1. That appellant was recruited as Mineral Guard (BPS-01) on 28/10/2014 in this Department.
2. No Comments. As pertain to record
3. Mr. Hilal Ahmad Mineral Guard was directed vide this office order No. 752/MDW/MR/Establishment file dated: 01/07/2020 to perform duty round the clock at Jaganath, Adnan Talao, Sher Dara, Mir Ali, Ismaila, Adina, Kalo Khan District Swabi, with already deputed mineral guards to curb un-authorize mining (**copy of office order enclosed as annex-A**). It is correct that Respondent No. 1 & 2 paid surprise visit to Jaganath District Swabi on 10/07/2020 and the appellant was found absent from his duty.
4. Correct to the extent that at the time of visiting of the respondent No. 1 & 2, illegal mining was continued in Jaganath, District Swabi. The rest of para is subject to proof.
5. Correct to the extent that on 10/07/2020, the day on which the respondent No. 01 & 02 visited Jaganath, Adnan Talao, District Swabi, the appellant lodged Marasallas in Police Station Yar Hussain, District Swabi (**Copies of Murasallas are enclosed as Annex-B & C**).

Cont'd on p/2


- 3
6. Incorrect. As stated in para-3 that on surprise visit of High ups, the appellant along with other Mineral Guards were absent from the site.
 7. As stated in para 05 above.
 8. Murasalla against Shakil and Asif (offenders) were registered by Kashif Mineral Guard while Mr. Hussain Ahmad, Mr. Shahid Hussain and Hilal Ahmad are witness. The other Murasllas was registered by Hussain Ahmad and Shahid Hussain, Hilal Ahmad other Kashif were witnessed.
 9. Correct to the extent that the day of occurrence was Friday 10/07/2020.
 10. Correct to the extent that Show Cause Notices were issued to Mineral Guards namely Mr. Shahid Hussain, Hussain Ahmad, Hilal Ahmad and Kashif on 13/07/2020 on account of failure to control illegal mining/transportation, absent from the site despite the fact that considerable time was spent on the site by high ups i.e the then Secretary Mineral Development and Director General Mines & Mineral and non performing of duties which is misconduct an inefficiency on the part of all these four Mineral Guards, they submitted their reply on 20/07/2020.
 11. The appellant was given an opportunity for personal hearing on 27/07/2020 however, he could not have satisfied the Competent Authority.
 12. Correct to the extent that the Competent Authority in exercise of power under 4(1) (b) (iii) of Khyber Pakhtunkhwa Civil Servant Efficiency & Discipline Rules-2011 imposed major penalty of "Removal from Service" Mineral Guards on 27/07/2020.
 13. Correct to the extent that all Mineral Guards preferred appeals before the Appellate Authority i.e Secretary Minerals Development Department which were rejected on 08/02/2021.
 14. No comments.


Grounds: -


- A. Incorrect, the Appellant was found absent from the area Jaganath District Swabi. However, Marasalla have been registered by the appellants in Police Station Yar Hussain.
- B. Subject to proof and pertained to record at the day and time of visit by respondent No. 1 & 2. The appellant/appellants were found absent from the site.
- C. Incorrect, hence denied.
- D. The distance between Jaganath and Police Station Yar Hussain is about 5 Kilometers but motor bike was used and therefore there is no excuse in respect of distance, however it is correct that the occurrence day was Friday.
- E. Incorrect, the order dated: 27/07/2020 and 08/02/2020 is in accordance with law and facts.
- F. The Appellants/Applicants were found absent at site visited by Respondent No. 01 and 02. Therefore, the order removal from service was issued in accordance with law.
- G. Correct to the extent that two Marasallas were registered in Police Station Yar Hussain by appellants. However, the removal order was issued due to absence from the site.
- H. Subject to proof.
- I. The respondents passed the removal from service order in accordance with law and rules.
- J. Incorrect, hence denied the removal from service is based on facts.


K. No comments.

In view of the above it is requested that appeal/appeals of appellant/appellants may be dismissed with cost, please.


Director General Mines & Mineral
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar,
(Respondent No. 1)


Secretary
Minerals Development Department,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar,
(Respondent No. 2)


Assistant Director
Mineral Development, Mardan
(Respondent No. 3)


Assistant Director
Mineral Development, Swabi
(Respondent No. 4)



16

Ann -

REGISTERED



**OFFICE OF THE
ASSISTANT DIRECTOR MINERAL DEVELOPMENT MARDAN**
Address: Center Colony, Near Jamia Masjid Muqam Chowk District Mardan. Tel: No.0937-9230506

No. /MDW/MR/Establishment File

Dated: 7/7 /2020

OFFICE ORDER

In partial modification of this office order dated 01/07/2020 Mr. Hussain Ahmad Mineral Guard of this office is hereby directed to perform duty round 'o' clock at Jagana/Adnan Talao & Sher Dara/Mir Ali, Ismila, Adina, Kalo Khan District Swabi with the already deputed Mineral Guards to curb un-authorize mining and take legal action as per Act.

Assistant Director (Tech)
Mineral Development Mardan

Dated: 7/7 /2020

Endst: No. 845-48 /MDW/MR/Establishment
Copy to:

1. The Director General Mines and Mineral Khyber Pakhtunkhwa Peshawar for information, please.
2. Mr. Mamnoon Khan Royalty Inspector for information.
3. Muhammad Atif Khan RSI for information.
4. Mr. Hussain Ahmad Mineral Guard of this office for compliance.

Assistant Director (Tech)
Mineral Development Mardan

(17)

Aves-

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
DEPARTMENT OF MINES & MINERALS DEVELOPMENT

11:00 am

وقت 10:07-020

وقت 10:07-020

عشر لہو شدہ وقت 10:07-020 (اصف درنگ)

رقم (17) 26 و سٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17 و سٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17

براسلہ اغرض قاضی مقدمہ

یا صمدین

متمم اس کی وجہ سے کہ تنظیم اسٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17 میں موجود ہے۔ یہ تشکیل وار حصول اکتاف
 قتلہ یا بے پناہ ہونے کے بعد 0246-9435351 اور آصف ولد وارث خان سکن سکن
 ایچ ایس ایف کے ذریعے دوبارہ اپنے وارث میں منقسم قانونی مانتاگ و سر سبیل شہود کیا۔
 اور نہ کہ شہادت الیون کو اور ان کے بیٹے وقت سے لوڈ کر رہے تھے۔ ہم نے سند رقم بالا افراد
 کو کئی بار سزا کا نام دیا اور بالا رقم میں سے کسی بھی قسم کی عدالتی مانتاگ سر سبیل پر مانتاگ اور D.C
 متاخر ہو جانے کے بعد رقم بالا رقم میں سے رقم 14 لاکھ بھی نامزد کیا ہے۔ دیگر اس کے باوجود قتلہ
 بالا افراد میں سے قانونی مانتاگ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور وہ رقم سر نیات سے مناسبت لے رہے ہیں۔
 اور سزا کے بعد ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ جو کہ منقسم قانونی و قابل رسد اندازہ ہو سکتا ہے۔
 لہذا یہ حاصل کرنے کے بعد میں سے جس کی جان بچا کر منقسم و بے پناہ منقسم اور آکاف
 و لا وارث طالب و اسیلوں سے منقسم و آسٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17 و سٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17
 فرکارہ تازین کارو اور ان کے سر اور دیگر منقسم و آسٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17 و سٹریٹ سٹیٹس ایٹاٹ 17
 عشر قانونی مانتاگ و سر سبیل مانتاگ دیا جائے۔ لہذا FIR سے منقسم اور رقم میں

لخواہ بنی
 1601-0117603

FIR سے منقسم
 6313-9390894

Kashmir

اصف منزل کارڈ

اصف منزل کارڈ

صواب

اصف منزل کارڈ

صواب

صواب

اصف منزل کارڈ



VH

7-20

(18)

حضرت نایب المشرفہ ڈائریکٹر ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ سوات

جناب عالی!


گزارش کی تاریخ 11-1-1970ء اور اس میں بیان کیا گیا ہے
 مطابق جمع مندرجہ ذیل کے لئے درخواستیں
 کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کی موجودگی
 کی نظر دینا میں عرض ہے کہ ان میں سے
 ادنیٰ درجہ کی درخواستیں بھی اس میں
 درج کی گئی ہیں جو اس میں بھی
 کو درج کر کے ایک ایک کی ضرورت
 مشرفہ دفتر میں گئے اور ان کے
 احوال کے تحت یہ عرض ہے کہ ان میں سے
 کی بنا پر اس میں بھی درج کر کے
 اور اس میں بھی درج کر کے

10-07-70

Handwritten signature
 Handwritten signature
 Handwritten signature

Handwritten signature
 Handwritten signature
 Handwritten signature
 Handwritten signature

العارض



~~8~~

فارم نمبر ۲۲-۵ (۱)

19

IKP

ابتدائی اطلاع رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ نو چھاپا

تاریخ وقوع ۱۵/۱۱/۲۰۱۷ وقت ۰۷:۰۰ بجے
ضلع (پشاور) سیشن 549

جائے وقوع ۱۵/۱۱/۲۰۱۷ وقت ۰۷:۰۰ بجے	جائے وقوع ۱۵/۱۱/۲۰۱۷ وقت ۰۷:۰۰ بجے
کاشق مرزا گارڈ	ابتدائی اطلاع دہندہ مستغیث
56 سیکٹر گریڈیشن اینڈ 2017	بیمہ جرم (معدہ دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔
(آپوزا درگا)	سے دو فاصلہ تھانہ سے اور سمت غیر لیز سڑک (قدیم جگہ) (آپوزا درگا)
پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا	پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا
پیر سسٹری ٹرا سیکلہ	پیر سسٹری ٹرا سیکلہ

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 مہموت علی بی بی بھرتی SHC صاحبہ تھانہ پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 حکمہ دروغت ہوئی کے ملائی ہم جملہ فنڈز گارڈز اور سیکورٹی سٹاف پر لیز سڑک (قدیم جگہ)
 عدنان مالو میں موجود تھے، کہ شکیلہ ولدہ حسن الہ آباد سکول پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 034894 اپوزا میں ولدہ وارث صاحبہ سکول نام ہوئی اپنے ابا اور والدین کے ذریعہ
 دوبارہ اپنے درون میں غلطی ہوئی برائے شکی و ترسلی شروع کیا اور لیز سٹریٹوں کو اپنی مدد
 رہیں سے لوڈ کر لیں تھے، پھر پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 لی معدی کان کنی و ترسلی پر پابندی ہے اور (ا) پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 149 ہی نافذ کیا ہے۔ لہذا اسکے باوجود پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 اور کہ مہموت علی بی بی بھرتی اور کاشق مرزا گارڈز پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 واپس ریسٹورڈ کیا گیا۔ لہذا اس کے بعد پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 کہ شکیلہ ولدہ حسن الہ آباد سکول پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 کے تحت FIR درج ہوئی اور پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 میں خیر نامی صاحبہ کے پاس سے پیر سسٹری ٹرا سیکلہ پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔
 کاشق مرزا گارڈز پر مقومہ درج ریسٹورڈ کیا گیا۔

کتاب اسرار و احوال و کتب معتبره (کتاب)

کتاب الہامی

گزارش ہے آری زمین کے کائنات اور
علم علی منزل کا راز و کھنڈ ہے۔ ایک غیبی اور
رقیب کی کتاب ہے جس میں موجود ہے۔ آج کے دور و زمانہ میں


میں قانون ماننا اور اس میں بڑی ایک سوویت مشین
پیدا کی ہے۔ اور اس کے ذریعہ زمین کو اور اس کے معنی

دیکھ کر اس کے کئی کئی حصے متعلقہ تھانے میں دیکھ
کر ان کے خلاف کریم اور اس کے ذریعہ

کیسے فراموش کر لیا ہے وہ اس کے
میں: 10-07-20

اکھارہن

اسرار و احوال و کتب معتبره
کتاب الہامی
کتاب اسرار و احوال و کتب معتبره
کتاب الہامی



99

فارم نمبر ۱۵۲-۱۵

KFA 2

ابتدائی اطلاع رپورٹ

یہ اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۲ مجموعہ ضابطہ فوجداری

تاریخ	محل وقوع	ضلع	صوبہ
10/07/2017	گاہنڈی	ضلع	پنجاب
وقت	وقت	تاریخ	وقت
10:00	10:00	11/07/2017	10:30
مقدمہ	مقدمہ	مقدمہ	مقدمہ
غیر ملوث	غیر ملوث	غیر ملوث	غیر ملوث
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
1	1	1	1
جنس	جنس	جنس	جنس
مرد	مرد	مرد	مرد
سن	سن	سن	سن
45	45	45	45
پتہ	پتہ	پتہ	پتہ
گاہنڈی	گاہنڈی	گاہنڈی	گاہنڈی
پرستی	پرستی	پرستی	پرستی
پولیس سٹیشن	پولیس سٹیشن	پولیس سٹیشن	پولیس سٹیشن
150	150	150	150

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ رائے ہو اور علیٰ اثر حسین احمد مندری گارڈ
 جھوٹے ریل کے کلرکت ملائی صاحب چاقو سے کٹ کر اس کی چاقو سے کٹ کر اسٹینٹ ڈائریکٹر
 عدلیات ہونے کے مطابق ہم جملہ مندری گارڈز اور غیر ملوث حنا تو عدلیات
 تالاؤ میں موجود ہے کہ نظار ولد رحمان اللہ سکندر صاحب ضلع ہوائی حوثا ٹیل نمبر 9362-0340
 اور وسیم ولد عبدالقہار سکندر صاحب حوثا ٹیل نمبر 146-9255-0340 اپنے انکسویٹر فیشن
 سے درپے دو بارہ اپنے دریل میں غیر قانونی فائلنگ و ترمیم شروع کیا اور ٹرانزٹ ٹریڈنگ
 کو ادنیٰ صورتیات دینے سے اوڑھ کر رہے تھے پھر عدلیہ جہاں بالا افراد کی بار مٹا جانے پر
 مالا رقم میں پر قسم کی مہلکی کان کنی و ترسیل پر پابندی سے اور کئی مہینے
 عدلیہ بالا رقم میں دفعہ 144 نافذ کرنا ہے۔ ان کے باوجود عدلیہ جہاں بالا افراد نے دریل
 میں غیر قانونی فائلنگ و ترمیم ادنیٰ صورتیات دینے سے پہلے ہو کہ غیر قانونی قابل
 دست اندازی پولیس جرم ہے۔ تو ذرا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ
 نظار ولد رحمان اللہ وسیم ولد عبدالقہار اور انکسویٹر فیشن ایڈیشن جہاں بالا دفعہ
 تحت FIR درج فرما کر قانونی کارروائی کریں اور انکسویٹر فیشن کو اپنے حوالے میں لینے
 نقل FIR سے ہمیں لوڑ لے دیجئے۔ انکسویٹر حسین احمد مندری گارڈ


(27)

GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
DEPARTMENT OF MINES & MINERALS DEVELOPMENT

04-07-2020 15:00 AM

04-07-2020

مقام اعلیٰ سیکریٹری، حکومت خیبر پختونخوا (آئی. سی. ڈی. سیکشن)
گورنمنٹ ہاؤس، ایف۔ ایف۔ 156 (1) اسلام آباد



بازو بھائی، ل. س. ڈی. او.

مقام اعلیٰ سیکریٹری، حکومت خیبر پختونخوا کے نام سے درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق
 درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل
 سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل سرکاری زمینوں کے متعلق درخواست ہے کہ درج ذیل

16101-9360765-3
0305-9575590

Handwritten signature

شاہد حسین منیر گارڈ

Handwritten signature

شاہد حسین احمد منیر گارڈ

Handwritten signature

شاہد حسین منیر گارڈ